

## 220989- تلبیہ میں اضافہ کرنے کا حکم

### سوال

سوال: کیا حج و عمرہ میں کسی جانے والے معروف تلبیہ میں اضافہ کرنا جائز ہے؟

### پسندیدہ جواب

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ یہ تھا:

)  
بَلَّيْتُ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ  
بَلَّيْتُ، إِنَّ نُحْرًا وَنَعْمَةً لَكَ وَاللَّيْلُ، لَا شَرِيكَ لَكَ  
[حاضر

ہوں یا اللہ! میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بیشک  
تعریف اور نعمتیں تیرے لیے ہی ہیں، اور تیری ہی بادشاہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے [آپ  
ان کلمات سے زیادہ کچھ نہیں کہتے تھے)  
بخاری: (5915) مسلم: (1184)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تلبیہ کے یہ الفاظ منقول ہیں:

)  
بَلَّيْتُ إِلَهَ الْحَقِّ  
[آے

سچے معبود میں حاضر ہوں]

احمد

(2/341) البانی رحمہ اللہ نے اسے "سلسلہ

صحیحہ

"(2146)

میں صحیح کہا ہے۔

کچھ صحابہ کرام سے ان الفاظ میں کچھ اضافہ بھی ثابت ہے۔

چنانچہ نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما تلبیہ میں  
کہا کرتے تھے:

”لَبَّيْكَ

لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَانْحَرِبَيْدَيْكَ، لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ  
إِلَيْكَ وَالنَّعْلُ“

ترجمہ: میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تجھ سے سعادت مندی حاصل کرنے کیلئے حاضر ہوں،  
ہر قسم کی خیر تیرے ہاتھ میں ہے، میں حاضر ہوں، ثواب کیلئے رغبت صرف تیری طرف ہے  
اور عمل بھی تیرے لیے ہی ہے۔ مسلم: (1184)

اور مصنف ابن ابی شیبہ (4/283) میں مسور بن مخزوم کہتے ہیں:

”عمر رضی اللہ عنہ کا تلبیہ اس طرح ہوتا تھا:

”

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ

انْحَرِبُ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمَلَكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ، لَبَّيْكَ

مَرْغُوبًا أَوْ مَرْهُوبًا، لَبَّيْكَ ذَا النِّعْمَاءِ وَالْفَضْلِ الْحَسَنِ“

ترجمہ: ”حاضر ہوں یا اللہ! میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، میں  
حاضر ہوں، بیشک تعریف اور نعمتیں تیرے لیے ہی ہیں، اور تیری ہی بادشاہی ہے، تیرا  
کوئی شریک نہیں ہے، تیری رحمت سے پر امید ہو کر اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہوئے حاضر  
ہوں، میں حاضر ہوں نعمتوں، اور فضل و احسان کرنے والے“

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم  
نے صحابہ کرام کو تلبیہ کے الفاظ میں اضافے پر نہیں ٹوکا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ  
یہ الفاظ جائز ہیں۔

چنانچہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ: ”نبی صلی

اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید پر مشتمل تلبیہ“

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ

لَبَّيْكَ، إِنَّ انْحَرِبُ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمَلَكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ“

[حاضر ہوں یا اللہ! میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں،  
بیشک تعریف اور نعمتیں تیرے لیے ہی ہیں، اور تیری ہی بادشاہی ہے، تیرا کوئی شریک  
نہیں ہے] کہا، اور لوگوں نے بھی اپنے اپنے الفاظ میں تلبیہ کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ

وسلم نے کسی کے الفاظ کو مسترد نہیں فرمایا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انہی الفاظ میں تلبیہ کہتے رہے ”  
مسلم: (1218)

چنانچہ حدیث کے ان مجموعی الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تلبیہ کا اہتمام کرنا افضل ہے، اور اگر کوئی شخص صحابہ کرام سے منقول الفاظ یا کسی اور کے [شرعی طور پر جائز] الفاظ کو تلبیہ میں شامل کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

چنانچہ امام شافعی رحمہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ تلبیہ کے الفاظ ذکر کرنے کے بعد کہا ہے :  
”احرام باندھنے والے شخص کا تلبیہ انہی الفاظ پر مشتمل ہونا چاہیے، ان میں کمی زیادتی نہ کرے، تاہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابوہریرہ کے نقل کردہ الفاظ [یعنی :  
بَلَّيْتُ اِلَّا نَحْيًا] کو

شامل کرنے کی گنجائش ہے؛ کیونکہ ان الفاظ کا مطلب بھی تلبیہ والا ہی ہے، کیونکہ اس میں بھی تلبیہ اور حاضر ہونے کے معنی پائے جاتے ہیں، تو ان الفاظ کو کہہ کر اسی بات کا اظہار ہوتا ہے کہ اس نے سچے معبود کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے حاضری دی ہے۔

تاہم تلبیہ کے متعلق کسی پر سختی نہیں کرنی چاہیے، جیسے کہ ابن عمر اور دیگر صحابہ کرام نے تعظیم الہی پر مشتمل الفاظ تلبیہ کے طور پر کہے ہیں، اور ساتھ میں دعائیہ الفاظ بھی شامل کیے ہیں، لیکن میرے نزدیک پسندیدہ عمل یہی ہے کہ جو الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منقول ہیں انہی پر اکتفا کیا جائے اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ الفاظ کے علاوہ کوئی اضافہ نہ کرے، اور جب تلبیہ بند کر دے تو پھر اللہ کی عظمت بیان کرے اور دعائیں مانگے ”انتهی مختصراً  
”الأم“ (170-2/169)

شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں :

”مسئلہ : جابر رضی اللہ عنہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کردہ تلبیہ کے الفاظ میں ہم اضافہ کر سکتے ہیں؟

اس کے جواب میں ہم کہیں گے : ہاں کر سکتے ہیں، کیونکہ امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تلبیہ میں فرمایا تھا :

)

بَلَيْتِكَ إِلَهَ الْنُحْتِ

(اے

سچے معبود میں حاضر ہوں]

یہاں

إِلَهَ الْنُحْتِ

”موصف کو صفت کی طرف مضاف کیا گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ: حاضر ہوں، تو  
ہی معبود برحق ہے۔

اور ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنے تلبیہ میں اضافہ کرتے ہوئے کہا  
کرتے تھے:

”بَلَيْتِكَ

بَلَيْتِكَ وَسَعْدِيكَ، وَالنَّخْرِ بَيْتِكَ، بَلَيْتِكَ وَالرَّغْبَاءُ

إِلَيْكَ وَالنَّعْمَلُ”

اس لئے اگر کوئی انسان اس طرح کے الفاظ کا تلبیہ میں اضافہ کر لے تو  
ہمیں امید ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا، لیکن بہتر یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ  
وسلم سے ثابت شدہ الفاظ کا التزام کیا جائے ”انتہی  
”الشرح الممتع“ (7/111)

شیخ ابن جبرین رحمہ اللہ کہتے ہیں:

”تلبیہ کے مسنون الفاظ میں اضافہ کرنا جائز ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم  
اپنے صحابہ کرام کے تلبیہ کے مختلف الفاظ سنا کرتے تھے اور آپ ان میں سے کسی کو  
ٹوکتے نہیں تھے، صحابہ کرام کی طرف سے اضافہ شدہ الفاظ میں سے کچھ یہ ہیں:

بَلَيْتِكَ بَلَيْتِكَ وَسَعْدِيكَ، وَالنَّخْرِ بَيْتِكَ، وَالشَّرَائِسُ

إِلَيْكَ، نَحْنُ عِبَادُكَ الْوَاقِدُونَ إِلَيْكَ، الرَّاغِبُونَ فِيهَا

لَدَيْكَ”

اسی طرح:

بَلَيْتِكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالنَّعْمَلُ

“

ایسے ہی ”  
بَنِيكَ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ“

یا پھر: ”  
بَنِيكَ حَقًّا حَقًّا تَعْبُدُ أَوْ رِقًّا“

اس طرح کے تمام الفاظ جائز ہیں؛ کیونکہ ان الفاظ میں انسان نیک  
اعمال کا اللہ تعالیٰ سے وعدہ اور عہد کرتا ہے، اور انہی پر گامزن رہنے کا عزم ظاہر  
کرتا ہے، اسی طرح ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی شایان شان حمد و ثنا بھی ہے، کیونکہ  
خیر وہ دیتا ہے، اسی سے خیر حاصل ہوتی ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، اس کے ہاں شر نہیں  
ہے، لہذا اگر کوئی شخص اس طرح کا تلبیہ کہتا ہے تو ان شاء اللہ اس کی عبادت قبول  
ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اسے بقیہ زندگی میں بھی محفوظ رکھے گا ”انتہی  
شرح: ”عمدة الاحکام“

واللہ اعلم.